

Al Tarteel Lesson 49

التَّارْتِيلُ

Learn the correct pronunciation of the Holy Qur'an

www.mta.tv/tarteel

Responses of the Believers

(on reading or hearing certain verses of the Holy Qur'an)

Part II

Group 3

Questions

Surah Al-Rahman 55:14

Repeated 31 times

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

Which, then, of the favours of your Lord will you twain deny?

Response

لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُكَ فَالْحَمْدُ

We do not deny any of your favours, our Lord; all praise belongs to Thee.

Surah Al-Waqi'ah: Chapter 56

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٦﴾

Which, then, of the favours of your Lord will you twain deny?

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٧﴾

Which, then, of the favours of your Lord will you twain deny?

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٨﴾

Which, then, of the favours of your Lord will you twain deny?

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٦٩﴾

Which, then, of the favours of your Lord will you twain deny?

Surah Al-Waqi'ah: Chapter 56

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٦﴾
بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٧﴾
بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٨﴾
بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٦٩﴾
بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surah Al-Waqi'ah - Chapter 56:60

ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٠﴾

Is it you who have created it, or are We the Creator?

Response

بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surely, O my Lord, You (create it)

Surah Al-Waqi'ah - Chapter 56:64-65

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾

Do you see what you sow?

Is it you who cause it to grow, or are We the Grower?

Response

بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surely, O my Lord, You (produce it)

Surah Al-Waqi'ah - Chapter 56:69-70

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٩﴾
ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٧٠﴾

*Do you see the water which you drink?
Do you send it down from the clouds, or are We the Sender?*

Response

بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surely, O my Lord, You (send it)

Surah Al-Waqi'ah - Chapter 56:72-73

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧٢﴾

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٧٣﴾

*Do you see the fire which you kindle?
Is it you who produce the tree for it, or are We the Producer?*

Response

بَلْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surely, O my Lord, You (producer it)

Surah Al-Waqi'ah: Chapter 56
Response

بَلِّغْ أَنْتَ يَا رَبِّ

Surely, O my Lord, You (create it)

Surely, O my Lord, You (produce it)

Surely, O my Lord, You (send it)

Surely, O my Lord, You (produce it)

Surah Al-Mulk - 67:31

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ
غُورًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣١﴾

*Say, Tell me, if all your water sinks into a deep recess,
who then will bring you clear flowing water?*

Response

اللَّهُ يَأْتِينَا بِهِ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Allah will bring it to us and He is the Lord of all the Worlds

Surah Al-Qiyamah - 75:41

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ

Has not such a One the power to raise the dead to life?

Response

بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Yes, He has the power to do all that He wills

Surah Al-Mursalat - 77:51

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

In which word then, after this, will they believe?

Response

أَمَّنَّا بِاللَّهِ

We believed in Allah

Surah Al-Tin - 95:9

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

Is not Allah the Best of judges?

Response

بَلَىٰ وَ أَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Yes, Why not, I am among the witnesses on this (fact)

Surah Al-Zumar - 39:37

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

Is not Allah sufficient for His servant?

Response

بَلَىٰ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Yes, Why not, I am among the witnesses on this (fact)

Saying of the Promised Messiah (peace be upon him)

”تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر
گذر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے۔
اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے
عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے۔
اور تدبیر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔“

Saying of the Promised Messiah (peace be upon him)

”انسان کو چاہئے کہ قرآن شریف کثرت سے
پڑھے اور جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے
اور خود بھی خدا سے وہی چاہے جو اس دعا میں چاہا گیا ہے۔
جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے اور اُن بد
اعمالیوں سے بچے جن کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔

Al-Hakam, 31 January 1904

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ